



PRESS RELEASE

For immediate release

September 5, 2025

Sukuk and Digitalization at the Forefront: SECP Outlines Reforms to Broaden Access, Inclusion, and Investment Opportunities

Islamabad, September 05, 2025 – In a meeting at the SECP Head Office with Mr. Zia Ijaz, President of Askari Bank Limited, and senior members of the bank's leadership, SECP Chairperson Mr. Akif Saeed reaffirmed the Commission's strong commitment to developing a vibrant Sukuk market as a cornerstone for deepening Pakistan's Islamic capital market.

The Chairperson highlighted that the SECP is actively pursuing a comprehensive digitalization agenda to improve access to finance, enhance financial inclusion, and increase efficiency in the delivery of financial services. Underscoring the opportunities for banks in Pakistan, he outlined several key initiatives already underway. These include digital bank account opening for corporates, digital distribution of financial products (such as mutual funds, pension funds, and insurance), auto-induction of private company shares into the central depository system, partnerships with banks to facilitate corporatization, and an expanded role for banks in both the primary issuance and secondary trading of equity and debt instruments.

The Chairperson commended Askari Bank for its pioneering role in advancing Sukuk as a Shariah-compliant alternative to conventional debt. This enables corporates to diversify their funding sources while creating high-quality investment opportunities for both institutional and retail investors. He further proposed arranging dedicated sessions with banks to explore opportunities for expanding the digital delivery of financial services, thereby strengthening Pakistan's financial ecosystem.

It was also highlighted that efforts are underway to introduce retail digital Sukuk through partnerships with telecom operators, ensuring broader outreach. This initiative will be supported by end-to-end digital processes for Sukuk subscription and trading. In addition, plans to launch micro-Sukuk aim to enhance financial inclusion by providing affordable, Shariah-compliant investment opportunities for small savers and underserved communities.

سکوک اور ڈیجیٹلائزیشن سرفہرست: ایس ای سی پی نے رسائی، شمولیت اور سرمایہ کاری کے مواقع کو وسعت دینے کے لیے اصلاحات کا خاکہ پیش کیا

اسلام آباد، 5 ستمبر 2025 – سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے چیئرپرسن جناب عاکف سعید نے عسکری بینک لمیٹڈ کے صدر جناب ضیاء اعجاز اور بینک کی سینئر قیادت کے اراکین کے ساتھ ایک ملاقات میں پاکستان کی اسلامی کیپٹل مارکیٹ کو وسعت دینے کے لیے ایک فعال سکوک مارکیٹ کی تشکیل کے عزم کا اعادہ کیا۔

چیئرپرسن نے کہا کہ SECP مالیاتی خدمات تک رسائی کو بہتر بنانے، مالیاتی شمولیت کو بڑھانے

اور مالیاتی خدمات کی فراہمی میں استعداد کار میں اضافہ کرنے کے لیے ایک جامع ڈیجیٹلائزیشن ایجنڈا پر فعال طور پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے بینکوں کے لیے دستیاب مواقع پر زور دیتے ہوئے کئی اہم اقدامات کا خاکہ پیش کیا جو پہلے سے جاری ہیں۔ ان اقدامات میں کارپوریٹس کے لیے ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت، مالیاتی مصنوعات (جیسے میوچل فنڈز، پنشن فنڈز اور انشورنس) کی ڈیجیٹل تقسیم، نجی کمپنیوں کے حصص کو خودکار طور پر سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم میں شامل کرنا، کارپوریٹائزیشن میں سہولت فراہم کرنے کے لیے بینکوں کے ساتھ شراکت داری، اور ایکوئٹی اور قرض کے آلات کے پرائمری اجراء اور سیکنڈری ٹریڈنگ دونوں میں بینکوں کے لیے وسیع کردار شامل ہے۔

چیئرپرسن نے روایتی قرض کا شریعت سے ہم آہنگ متبادل کے طور پر سکوک کو فروغ دینے میں عسکری بینک کے اہم کردار کو سراہا۔ یہ اقدام کارپوریٹس کو اپنے فنڈنگ کے ذرائع کو متنوع بنانے کے قابل بناتا ہے جبکہ ادارہ جاتی اور ریٹیل دونوں سرمایہ کاروں کے لیے اعلیٰ معیار کے سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے مالیاتی خدمات کی ڈیجیٹل فراہمی کو وسعت دینے کے مواقع تلاش کرنے اور پاکستان کے مالیاتی ماحولیاتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے بینکوں کے ساتھ خصوصی سیشنز منعقد کرنے کی بھی تجویز پیش کی۔

ملاقات میں یہ بھی بتایا گیا کہ ٹیلی کام آپریٹرز کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے ریٹیل ڈیجیٹل سکوک متعارف کرانے کی کوششیں جاری ہیں تاکہ وسیع رسائی کو یقینی بنایا جاسکے۔ اس اقدام کو سکوک کی سبسکریپشن اور ٹریڈنگ کے لیے مکمل ڈیجیٹل عمل کے ذریعے سپورٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ، مائیکرو-سکوک شروع کرنے کے منصوبے بھی ہیں، جن کا مقصد چھوٹے بچت کاروں اور پسماندہ طبقات کے لیے سستی، شریعت سے ہم آہنگ سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کر کے مالیاتی شمولیت کو بہتر بنانا ہے۔